




Leading
Publishers

اسلامیات

ساتویں جماعت کے لیے



خیرہ نختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور



قومی ترانہ

کشورِ حسین شادباد

پاک سرزمین شادباد

ارضِ پاکستان

تونشانِ عزمِ عالی شان

مرکزِ یقین شادباد

قوتِ اخوتِ عوام

پاک سرزمین شادباد

بساتینِ تازہ، تابندہ باد

قوم، ملک، مسکن

سرِ اُرد

رہبرِ ترقی و کمال

پرچمِ ستارہ و مہلال

جانِ استقبالی

ترجمانِ ماضی شانِ حال

سایۂ خدائے ذوالجلال



Leading Books Publisher
Jamrud Road, Peshawar

مطبع
لائی آف ایڈیٹرز

قیمت
49.00

تعداد
10,000

کود نمبر
LBP-1819(O)

آخری زندگی میں فلاح و کامیابی پانے کے لیے تعلیمات وحی کی ضرورت ہے۔

2 ختم نبوت

اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ نبوت و رسالت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اور یہ تعلیمات قرآن مجید و سنت نبوی کی صورت میں محفوظ ہیں۔ ارشاد بانی ہے

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ه

ترجمہ: ”محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں“

رسولوں پر ایمان:

بعثت نبوی سے پہلے دوسرے عقائد اور اعمال کی طرح رسولوں پر ایمان کا عقیدہ بھی غیر واضح تھا۔ کہیں پر انبیاء کرام کو معبود کا درجہ دیا جاتا تھا اور کہیں ان کو ایک عام انسان کے درجے سے بھی نیچے گرا دیا جاتا تھا۔ اسلام نے